

کیا گھر خریدنے کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہوگی  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنا گھر سیل کر دیا ہے اور نیا خریدنے کوشش میں ہوں اس کی رقم کو میرے پاس پڑے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جو میری ملک میں ہے کیا اس ساری رقم کی زکوٰۃ مجھے دینا ہوگی اور میں آج کل ریٹ پر رہ رہا ہوں؟  
سائل: طالب فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جی ہاں! آپ کو اس ساری رقم کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی کیونکہ انگلینڈ میں گھر اچھی خاصی رقم سے خریدا جاتا ہے اور وہ نصابِ زکوٰۃ سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے جبکہ صاحبِ نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ شخص بھی صاحبِ نصاب ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی (612.15 grams تقریباً) یا اس کی قیمت ہو۔ جو آج کے ریٹ کے مطابق 244.86 Ponds تقریباً ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو 200 درم یعنی ساڑھے باون تولے ہے۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 5 ص 902)

اور مکان کے لیے جمع رقم حاجتِ اصلیہ میں شمار نہیں ہوگی اس سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے کما فی فتاویٰ اہلسنت۔

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## QUESTION:

**What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding this matter: I have sold my house and I am now currently attempting to buy another. The money I received after selling the house has been in my ownership for over a year. Will I have to pay Zakāh on all of this money; at present I am living in a rented house.**

Question received by Tālib from England

## ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

Yes absolutely! You will have to pay Zakāh on the entirety of the money. Houses in England are bought by paying a substantial amount of money and this is a thousand times greater than the nisāb [threshold] of Zakāh. Zakāh is obligatory on the one who is sāhib-e-nisāb [owner of the threshold amount of wealth which makes a person liable for zakāh] and the one who possesses at least 612.15g of silver, or something of its value, is obliged to pay Zakāh. This is valued at around £244.86 according to the rate of silver [at the time of answering the question].

It is mentioned in Bahār-e-Shari'at:

The nisāb of silver is 200 dirhams i.e. 612.15g.

[Bahār-e-Shari'at Vol. 1 Part 5 p.902]

Gathering money for a house is not considered to be a hājat-e-asli [primary necessity] so Zakāh must be given upon it as mentioned in Fatāwa Ahlus Sunnah.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسل

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Dawud Hanif